

## آغا خان یونیورسٹی کی فیکلٹی کے لئے اعلیٰ درجے کے ریاستی ایوارڈز

صدر پاکستان کی جانب سے آغا خان یونیورسٹی اسپتال کی پروفیسر رخسانہ زبیری اور ڈاکٹر شاہد سمیع کو سول ایوارڈ کے لئے نامزد کیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈز صدر پاکستان کی صوابدید پر گورنر سندھ عمران اسماعیل دیں گے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب ہفتے کو گورنر ہاؤس کراچی میں منعقد ہو گی۔ پروفیسر رخسانہ زبیری اور ڈاکٹر شاہد سمیع ان 127 شخصیات میں شامل ہیں جنہیں یہ ایوارڈز دیئے جائیں گے۔ سول ایوارڈز ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان پر عطا کیے جاتے ہیں۔ اس سے قبل آغا خان یونیورسٹی کی ڈاکٹر نذرت فاروقی، ڈاکٹر ذوالفقار بھٹہ اور ڈاکٹر اطہر انعام کو بھی سول ایوارڈز سے نوازا جا چکا ہے۔ پروفیسر رخسانہ زبیری اور ڈاکٹر شاہد سمیع نے اپنے ایک دہائی پر مشتمل کیریئر کے دوران تعلیمی، تدریسی اور طبی معیار کی بہتری میں بہت اہم کردار ادا کیا جبکہ شعبہ میڈیسن کی تعلیم و تدریس اور سیکھنے کے طریقوں کو بڑھانے میں بھی ان کا مرکزی کردار رہا۔ پروفیسر رخسانہ زبیری نے مارچ 1986 میں آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور بعد ازاں ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کی سربراہ اور شعبہ ایجوکیشن کی ایسوسی ایٹ ڈین بنیں۔ انہوں نے میڈیکل کالج میں بھی اعلیٰ پوزیشنز بھی حاصل کیں جبکہ جانچ اور تشخیصی طریقوں کی بہتری اور طلباء کی شرکت کو بڑھانے سے متعلق ان کے کردار کو ایسوسی ایشن آف میڈیکل ایجوکیشن یورپ اور ایسوسی ایشن آف ایکسپلینس ان میڈیکل ایجوکیشن پاکستان نے بھی تسلیم کیا۔ پروفیسر رخسانہ زبیری نے ہیلتھ کیئر ایجوکیشن کی سہولت فراہم کرنے والے پاکستان کے پہلے اور واحد سینٹر فار انوویشن ان میڈیکل ایجوکیشن کی منصوبہ بندی اور تشکیل میں اہم کردار ادا کیا اور سینٹر کی پہلی عبوری ڈائریکٹر بنیں۔ ان تمام خدمات پر انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اگلی نسل کے محققین، دیکھ بھال کرنے والوں اور رہنماؤں کو نئے چیلنجوں سے نمٹنے کی تعلیم دینا واقعی بہت متاثر کن رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ حاصل کرنا ایک اعزاز کی بات ہے جس پر میں بے حد شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر شاہد سمیع آغا خان یونیورسٹی کے شعبہ سرجری کے سینئر پروفیسر اور کارڈیوتھراسک سرجن ہیں۔ انہوں نے برطانیہ سے پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد 1998 میں آغا خان یونیورسٹی جوائن کی وہ پاکستان میں نہ صرف اپنے ہمراہ امراض قلب کے پیچیدہ آپریشنز کی بھرپور مہارت لائے بلکہ انہوں نے سرجنز، نرسز، ٹیکنیشنز اور دیگر طبی عملے کی تدریس اور تربیت کے لئے مختلف پروگرامز بھی تشکیل دیئے جس سے ان کی مہارت میں اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر شاہد سمیع پاکستان سوسائٹی آف کارڈیو ویسکیولر اینڈ تھوراسک سرجنز کے نائب صدر بھی ہیں جبکہ امراض قلب کی ملکی اور بین الاقوامی سوسائٹیز کے ہمراہ کام بھی کرتے ہیں جو پاکستان اور بیرون ملک میں امراض قلب کے آپریشنز کی نئی اور جدید تکنیک اور پروگرامز متعارف کراتی ہیں۔ ان خدمات پر ڈاکٹر شاہد سمیع کو ستارہ امتیاز دیا جائے گا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد سمیع کا کہنا تھا کہ میں نے امراض قلب کے مریضوں کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لئے آغا خان یونیورسٹی جوائن کی تھی جس میں کامیابی ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایوارڈ ایک خواب تھا جس کی تعبیر ادارے کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھی۔